

# Ezr

## Chapter 4

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1	וַיִּשְׁמְעוּ	צָרִי	יְהוּדָה	וּבְנֵימִן	כִּי-	בְנֵי	הַגּוֹלָה	בּוֹנִים	הַיְכָל
	اور-سنا	دشمنوں نے	یہوداہ کے	اور-بنیامین کے	کہ-	بیٹے	ال-جلاوطنی کے	بنا رہے ہیں	بیکل
	<a href="#">H8085</a>	<a href="#">H3063</a>	<a href="#">H1144</a>			<a href="#">H1473</a>	<a href="#">H1129</a>	<a href="#">H1964</a>	
	לַיהוָה	אֱלֹהֵי	יִשְׂרָאֵל:						
	لے-خداوند	خدا	اسرائیل کے						
	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H3478</a>						

ہیں رہے کر تعمیر گھر لئے کے خدا کے اسرائیل رب اسرائیلی ہوئے آئے واپس میں وطن کہ چلا پتا کو دشمنوں کے یمن بن اور یہوداہ

2	וַיִּנְשְׂאוּ	אֶל-	זְרֻבָבֶל	וְאֶל-	רָאשֵׁי	הָאֲבוֹת	וַיֹּאמְרוּ	לָהֶם	בְּנֵיהָ	עִמְכֶם
	اور-نزدیک آئے	الی-	زرابل	اور-الی-	سرداروں	ال-آباء کے	اور-کہا	ان	بنائیں ہم	ساتھ-تمہارے
	<a href="#">H5066</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H2216</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0001</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H1992</a>	<a href="#">H1129</a>	
	כִּי	כֹּחַם	נְדָרוֹשׁ	לְאֵלֵיהֶם	וְלֹא]	וְלֹא	אֲנַחְנוּ	זְבָחִים	מִימֵי	אֶסֶר
	کیونکہ	کے-تم	ڈھونڈتے ہیں	لے-خدا-تمہارے	[اور-نہیں]	(اور-لے-آس)	ہم	قربانی کرتے ہیں	من-دنوں	ایسر
	<a href="#">H0634</a>	<a href="#">H4428</a>	<a href="#">H0804</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H0587</a>	<a href="#">H2076</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H0634</a>	
	חֲדָן	מֶלֶךְ	אֲשׁוּר	הַמַּעֲלָה	אֲתָנוּ	פָּה:				
	حدوں	بادشاہ	اشور کے	ال-لانے والے	ہمیں	یہاں				
	<a href="#">H0634</a>	<a href="#">H4428</a>	<a href="#">H0804</a>	<a href="#">H5927</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H6311</a>				

سے جب کیونکہ ہیں۔ چاہتے کرنا تعمیر کو گھر کے رب کر مل ساتھ کے آپ بھی ہم کی، درخواست نے انہوں کر آپس کے سرپرستوں خاندانی اور زرابل ہیں۔ آئے کرتے پیش قربانیاں اُسے اور رہے طالب کے خدا کے آپ ہم سے وقت اُس بے بسایا کر لا یہاں ہمیں نے اسرحدوں بادشاہ کے اسور

3	וַיֹּאמְרוּ	לָהֶם	זְרֻבָבֶל	וַיִּשְׁוֵעַ	וַיִּשְׁאַר	רָאשֵׁי	הָאֲבוֹת	לְיִשְׂרָאֵל	לֹא-	לָכֶם	וְלָנוּ
	اور-کہا	ان	زرابل نے	اور-یشوع	اور-باقی	سرداروں	ال-آباء کے	لے-اسرائیل	نہیں-	لے-تم	اور-لے-ہم
	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H2216</a>	<a href="#">H3442</a>	<a href="#">H7605</a>	<a href="#">H0001</a>	<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H3808</a>				
	לְבָנוֹת	בֵּית	לְאֵלֵינוּ	כִּי	אֲנַחְנוּ	יָחַד	בְּנֵיהָ	לַיהוָה	אֱלֹהֵי	יִשְׂרָאֵל	כְּאֲשֶׁר
	لے-بنانا	گھر	لے-خدا-ہمارے	کیونکہ	ہم	ایک-ساتھ	بنائیں گے	لے-خداوند	خدا	اسرائیل کے	جیسا
	<a href="#">H1129</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H0587</a>	<a href="#">H1129</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H3478</a>				
	צִוְנוּ	הַמֶּלֶךְ	כּוֹרֶשׁ	מֶלֶךְ-	פָּרַס:						
	حکم-دیا-ہمیں	ال-بادشاہ	کورش نے	بادشاہ-	فارس کے						
	<a href="#">H6680</a>	<a href="#">H4428</a>	<a href="#">H3566</a>	<a href="#">H4428</a>	<a href="#">H6539</a>						

اسرائیل رب ہی اکیلے ہم نہیں۔ واسطہ کوئی ساتھ ہمارے کا آپ میں اس نہیں، کیا، انکار نے سرپرستوں خاندانی باقی کے اسرائیل اور یشوع زرابل، لیکن ہے۔ دیا حکم ہمیں نے خورس بادشاہ کے فارس طرح جس گے، بنائیں گھر لئے کے خدا کے

4	וַיְהִי	עַם-	הָאֶרֶץ	מִרְפִּים	יְדֵי	עַם-	יְהוּדָה	וּמְבֹלְהִים]	וּמְבֹלְהִים)	אוֹתָם
	اور-تھی	قوم-	ال-زمین کی	ڈھیلی کرتی	ہاتھ	قوم-	یہوداہ کے	[اور-ڈراتی]	(اور-ڈراتی)	انہیں
	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H0776</a>	<a href="#">H7503</a>	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H3063</a>	<a href="#">H1089</a>	<a href="#">H0926</a>	<a href="#">H0853</a>		
	לְבָנוֹת:									
	لے-بنانے-سے									
	<a href="#">H1129</a>									

آہیں باز سے بنانے عمارت وہ تاکہ لگیں کرنے کوشش کی ڈرانے انہیں اور شکنی حوصلہ کی لوگوں کے یہوداہ قومیں دوسری کی ملک کر سن یہ

5 וְסִבְרִים אֶלְיָהֶם יוֹעֲצִים לְהַפֵּר עֲצָתָם כָּל-יָמֵי בּוֹרֶשׁ מְלֹךְ  
 اور-کرائے-کرتے علی-ان-کے-خلاف مشیروں-کو لے-ٹالنے-کو مشورہ-ان-کا تمام-دنوں کورش بادشاہ  
[H3289](#) [H3289](#) [H3289](#) [H3289](#) [H3289](#) [H3289](#) [H3289](#) [H3289](#) [H3289](#) [H3289](#)

פָּרֶס וְעַד- מְלָכּוֹת דְּרִינֶשׁ מְלֹךְ- פָּרֶס:  
 فارس-کے اور-تک- سلطنت دارا بادشاہ- فارس-کے  
[H6539](#) [H5704](#) [H4438](#) [H1867](#) [H4428](#) [H6539](#)

کے بادشاہ خورس تعمیر کی گھر کے رب یوں گئے۔ بو کامیاب میں روکنے کام کر دے رشوت کو مشیروں کچھ کے خورس بادشاہ کے فارس وہ کہ تک یہاں رہی۔رُکي تک حکومت کی بادشاہ دارا کر لے سے حکومت دور

6 וּבְמַלְכוּת אַחְשֵׁרוּשׁ בְּתַחֲלָתָּ בְּ-שְׁרוּעַ מְלָכּוֹתוֹ קְתָבוֹ שְׁטָזָה עַל- יִשְׁבִי יְהוּדָה  
 اور-ب-سلطنت اخسویرس-کی ب-شروع سلطنت-اُس-کی لکھا الزام علی-ربنے-والوں یہوداہ-کے  
[H4438](#) [H0325](#) [H8462](#) [H4438](#) [H3789](#) [H7855](#) [H3427](#) [H3063](#)

וִירוּשָׁלַם: ס  
 اور-یروشلم \*  
[H3389](#)

لکھا۔خط شکایتی کر لگا الزام پر باشندوں کے یروشلم اور یہوداہ نے دشمنوں کے اسرائیل تو ہوئی شروع حکومت کی بادشاہ اخسویرس جب میں بعد

7 וּבִימֵי אֶרְתַחֲשֶׁשְׁתָּא כְּתָב בְּשָׁלֵם מִתְרַדָּת מְבָאֵל וּשְׂאָר [כְּנוֹתוֹן] (כְּנוֹתוֹ) אֶרְתַחֲשֶׁשְׁתָּא-کے لکھا بشلام-نے متردات طابیل اور-باقی [ساتھیوں] (ساتھیوں-اُس-کے)  
[H3117](#) [H3789](#) [H1312](#) [H4990](#) [H7605](#) [H3674](#) [H3674](#) [H3674](#)

עַל- [אֶרְתַחֲשֶׁשְׁתָּא] (אֶרְתַחֲשֶׁשְׁתָּ) מְלֹךְ פָּרֶס וּכְתָב הַנְּשִׁתָּן קְתוּב אֶרְמִית  
 علی- [ارتخشستا] (ارتخشستا) بادشاہ (فارس-کے اور-تحریر ال-خط-کی لکھی-ہوئی آرامی  
[H0762](#) [H3789](#) [H5406](#) [H3791](#) [H6539](#) [H4428](#)

וּמְתַרְגָּם אֶרְמִית: פ  
 اور-ترجمہ آرامی \*  
[H0762](#) [H8638](#)

اور متردات بشلام، کر خاص پیچھے کے خط گیا۔ بھیجا خط شکایتی سے طرف کی دشمنوں کے یہوداہ اُسے میں حکومت دور کے بادشاہ ارتخشستا پھر ہوا۔ترجمہ کا اُس میں بعد اور گیا، لکھا میں زبان آرامی اُسے پہلے تھے۔ طابیل

8 רְחוּם בְּעַל- טַעַם וְשִׁמְשִׁי סְפָרָא כְּתָבוֹ אֲנָהּ חֲדָה עַל- יְרוּשָׁלַם לְאֶרְתַחֲשֶׁשְׁתָּא  
 رحوم صاحب- حکم-کے اور-شمسی کاتب-نے لکھا خط ایک علی-یروشلم لے-ارتخشستا  
[H1169](#) [H2942](#) [H8124](#) [H5613](#) [H3790](#) [H0104](#) [H2298](#) [H5922](#) [H3390](#)

מְלָכָא כְּנַמָּא:  
 بادشاہ اس-طرح  
[H3660](#) [H4430](#)

تھا، لکھا میں بتے لگائے۔ الزامات پر یروشلم نے اُنہوں میں جس دیا لکھ خط کو شہنشاہ نے شمسی میرمنشی کے اُس اور رحوم گورنر کے سامریہ

9 אֲדִין רְחוּם בְּעַל- טַעַם וְשִׁמְשִׁי סְפָרָא וּשְׂאָר כְּנוֹתָהוֹן דִּינִיא נְאֻפְרִסְתְּכָא  
 تب رحوم صاحب- حکم-کے اور-شمسی کاتب اور-باقی ساتھی-ان-کے دینی اور-افرستکائی  
[H0116](#) [H1169](#) [H2942](#) [H8124](#) [H5613](#) [H7606](#) [H3675](#) [H1784](#)

טְרַפְלִיאַ אֶפְרָסִיא [אַרְכוּי] (אַרְכוּי) בְּבִלְיָ (אַרְכוּי) שׁוּשַׁנְכָא [דְּהוּא] (דְּהוּא) עֵלְמִיא:  
 طرفلانی افراسی [ارکوی] (ارکوی) بابل سوسنکائی [دیہائی] (دیہائی) عیلامی  
[H2967](#) [H0670](#) [H0756](#) [H0756](#) [H0896](#) [H7801](#) [H1768](#) [H1723](#) [H5962](#)

مرد،کے عیلام یعنی سوسن اور بابل ارك، سبّر، طریل، اور سفیر قاضی، خدمت ہم کے اُن نیز شمسی، میرمنشی اور گورنر رحوم از:

10	וּשְׁאָר	אֲמִינָא	דְּי	הַגְּלִי	אֶסְפֵּרָא	רַבָּא	וַיְקִינָא	וְהוֹתֵב	הַמְּזוּ	בְּקִרְיָה	דְּי
	اور-باقی	قوموں	جن-کو	جلالوطن-کبا	اسنیر-نے	بڑے	اور-معزز	اور-بٹھایا	انہیں	پ-شہر	جو
	<a href="#">H7606</a>	<a href="#">H0524</a>	<a href="#">H1768</a>	<a href="#">H1541</a>	<a href="#">H0620</a>	<a href="#">H7229</a>	<a href="#">H3358</a>	<a href="#">H3488</a>	<a href="#">H1994</a>	<a href="#">H7149</a>	<a href="#">H1768</a>

שְׁמֵרִין	וּשְׁאָר	עֵבֶר-	נַהֲרָה	וּכְעֵנַת:
سامریہ-میں	اور-باقی	پار-	دریا-کے	اور-اب
<a href="#">H8115</a>	<a href="#">H7606</a>	<a href="#">H5675</a>	<a href="#">H5103</a>	<a href="#">H3706</a>

تھا۔ دیا بسا میں علاقے مغربی ماندہ باقی کے فرات دریائے اور سامریہ کر اُٹھا نے پال بنی اشور بادشاہ عزیز اور عظیم کو جن قومیں تمام باقی نیز

11	דְּנָה	פְּרָשָׁן	אֲנָרְתָא	דְּי	שְׁלָחוּ	עֲלוּהוּ	עַל-	אַרְתַּחְשֵׁשְׁתָא	מְלָכָא	עֲבָרִיד	אַנְשֵׁ
	یہ	نقل	خط-کی	جو	بھیجا	علی-اُس-پر	علی-	ارتخشستا	بادشاہ	بندے-تیرے	آدمی
	<a href="#">H1836</a>	<a href="#">H6573</a>	<a href="#">H0104</a>	<a href="#">H1768</a>	<a href="#">H7972</a>	<a href="#">H5922</a>	<a href="#">H5922</a>	<a href="#">H4430</a>	<a href="#">H4430</a>	<a href="#">H5649</a>	<a href="#">H0606</a>

עֵבֶר-	נַהֲרָה	וּכְעֵנַת:	פ
پار-	دریا-کے	اور-اب	*
<a href="#">H5675</a>	<a href="#">H5103</a>	<a href="#">H3706</a>	

ہیں۔ رہتے میں مغرب کے فرات دریائے جو خادم کے آپ از: نام، کے ارتخشستا [شہنشاہ تھا، لکھا میں خط

12	יְדִיעַ	לְהוֹנָא	לְמַלְכָא	דְּי	יְהוּדָיָא	דְּי	סְלָקוּ	מִן-	לְוִתָּךְ	עֲלִינָא	אַתּוּ
	معلوم	ہو	لے-بادشاہ-کو	کہ	یہودیوں-نے	جو	چڑھے	من-	لے-پاس-تیرے	علی-ہم-پر	آئے
	<a href="#">H3046</a>	<a href="#">H1934</a>	<a href="#">H4430</a>	<a href="#">H1768</a>	<a href="#">H3062</a>	<a href="#">H1768</a>	<a href="#">H5559</a>	<a href="#">H4481</a>	<a href="#">H3890</a>	<a href="#">H5922</a>	<a href="#">H0858</a>

לִירוּשָׁלַם	קְרִיתָא	מְרֻדְתָא	וּבְאִישְׁתָא	בְּנִין	וְשׁוּרִי]	(וְשׁוּרִיָא)	[אַשְׁכְּלֻון]	(שְׁכְּלִילוּ)
لے-یروشلم	شہر	باغی	[اور-برا]	بنا-رہے-ہیں	[اور-دیواریں]	(اور-دیواریں)	[مکمل-کیں]	(مکمل-کیں)
<a href="#">H3390</a>	<a href="#">H7149</a>	<a href="#">H4779</a>	<a href="#">H0873</a>	<a href="#">H1124</a>	<a href="#">H7792</a>	<a href="#">H7792</a>		

וְאִישָׁא	יְקִישׁו:
اور-بنیادیں	مرمت-کر-رہے-ہیں
<a href="#">H0787</a>	<a href="#">H2338</a>

رہے کر تعمیر سے سرے نئے کو شہر شریر اور باغی اُس وقت اس وہ ہیں پہنچے یروشلم پاس ہمارے سے حضور کے آپ یہودی جو کہ ہو علم کو شہنشاہ  
ہیں۔ رہے کر مرمت کی بنیادوں کے کر بحال کو فصیل وہ ہیں۔

13	כְּעֵן	יְדִיעַ	לְהוֹנָא	לְמַלְכָא	דְּי	הֵן	קְרִיתָא	דָּךְ	תְּתַבְּנָא	וְשׁוּרִיָה
	اب	معلوم	ہو	لے-بادشاہ-کو	کہ	اگر	شہر	یہ	بناپا-جائے	اور-دیواریں-اُس-کی
	<a href="#">H3705</a>	<a href="#">H3046</a>	<a href="#">H1934</a>	<a href="#">H4430</a>	<a href="#">H1768</a>	<a href="#">H7149</a>	<a href="#">H1791</a>	<a href="#">H1124</a>	<a href="#">H7792</a>	

יְשַׁתְּבְּלִין	מְנַדְה-	בְּלוּ	וְהִקְדִּי	לָא	וְתַנּוּן	וְאַפְתָּם	מְלָכִים	תְּהַנְזִק:
مکمل-ہوں	خراج-	ٹیکس	اور-محصول	نہیں	دیں-گے	اور-آخر-میں	بادشاہوں-کو	نقصان-پہنچائے-گا
<a href="#">H4061</a>	<a href="#">H1093</a>	<a href="#">H1983</a>	<a href="#">H3809</a>	<a href="#">H5415</a>	<a href="#">H0674</a>	<a href="#">H4430</a>	<a href="#">H5142</a>	

کر انکار سے کرنے ادا محصول اور خراج ٹیکس، لوگ یہ تو پہنچے تک تکمیل فصیل کی اُس اور جائے ہو تعمیر سے سرے نئے شہر اگر کہ ہو علم کو شہنشاہ  
گا۔ پہنچے نقصان کو بادشاہ تب گے۔ دیں

14	כְּעֵן	כָּל-	קָבֵל	דְּי-	מְלָח	הֵיכְלָא	מְלַחְתָּא	וְעֵרְנַת	מְלָכָא	לָא	אַרְיִד	לָא
	اب	تمام-	بدلے	جو-	نمک	محل-کا	نمک-کھایا-ہم-نے	اور-عزت	بادشاہ-کی	نہیں	مناسب	لے-ہم
	<a href="#">H3705</a>	<a href="#">H3606</a>	<a href="#">H6903</a>	<a href="#">H1768</a>	<a href="#">H4416</a>	<a href="#">H1965</a>	<a href="#">H4415</a>	<a href="#">H6173</a>	<a href="#">H4430</a>	<a href="#">H3809</a>	<a href="#">H0749</a>	

לְמַחְזָא	עַל-	דְּנָה	שְׁלָחְנָא	וְהוֹדְעָנָא	לְמַלְכָא:
لے-دیکھنا	علی-	اُس	بھیجا-ہم-نے	اور-خبر-دی	لے-بادشاہ-کو
<a href="#">H2370</a>	<a href="#">H5922</a>	<a href="#">H1836</a>	<a href="#">H7972</a>	<a href="#">H3046</a>	<a href="#">H4430</a>

ہیں کرتے گزارش ہم لئے اس ہیں۔ سکتے کر برداشت توہین کی شہنشاہ نہ ہیں، نہیں حرام نمک تو ہم

יָדִי	יְבִקֵר	בְּסֶפֶר-	דְּכַרְנִיא	דִּי	אֲבֹהֶתָךְ	וְתֵהֲשִׁיחַ	בְּסֶפֶר	דְּכַרְנִיא
تاکہ	تلاش- کرے	پ- کتاب-	یادداشتوں- کی	جو	باپ- دادا- تیرے- کی	اور- پائے	پ- کتاب	یادداشتوں- کی
<a href="#">H1768</a>	<a href="#">H1240</a>	<a href="#">H5609</a>		<a href="#">H1768</a>	<a href="#">H0002</a>	<a href="#">H7912</a>	<a href="#">H5609</a>	
וְתִנְדֹּעַ	דִּי	קְרִיתָא	רָד	קְרִיא	מְרָא	וּמְהַנְזֶקֶת	מְלָכִין	וּמְשִׁדּוֹר
اور- جانے	کہ	شہر	یہ	شہر	باغی	اور- نقصان- دہ	بادشاہوں	اور- فتنہ
<a href="#">H3046</a>	<a href="#">H1768</a>	<a href="#">H7149</a>	<a href="#">H1791</a>	<a href="#">H7149</a>	<a href="#">H4779</a>	<a href="#">H5142</a>	<a href="#">H4430</a>	<a href="#">H0849</a>
בְּנֵיהָ	מִן-	יּוֹמָת	עֲלָמָא	עַל-	רְזָה	קְרִיתָא	רָד	הַחֲרָבָת:
پ- درمیان- اُس- کے	من-	دنوں	پرآنے	علی-	اُس	شہر	یہ	ویران- کیا- گیا
<a href="#">H1459</a>	<a href="#">H4481</a>	<a href="#">H3118</a>	<a href="#">H5957</a>	<a href="#">H5922</a>	<a href="#">H1836</a>	<a href="#">H7149</a>	<a href="#">H1791</a>	<a href="#">H2718</a>

شہر یہ کہ گی ملے تصدیق کی بات اس میں اُن کیونکہ کریں، حاصل معلومات میں بارے کے یروشلم سے دستاویزات تاریخی کی دادا باپ اپنے آپ کہ ہے۔ ربا منبع کا بغاوت ہی سے زمانے قدیم اور ربا کرتا تنگ کو صوبوں اور بادشاہوں وہ کہ گیا کیا تباہ لئے اسی کو شہر میں حقیقت ربا۔ سرکش میں ماضی

מְהוֹדְעִין	אֲנַחְנָה	לְמַלְכָא	דִּי	הֵן	קְרִיתָא	רָד	תַּחְבֵּנָא	וְשׁוֹרְיָה
خبر- دیتے- ہیں	ہم	لے- بادشاہ- کو	کہ	اگر	شہر	یہ	بنایا- جائے	اور- دیواریں- اُس- کی
<a href="#">H3046</a>	<a href="#">H0586</a>	<a href="#">H4430</a>	<a href="#">H1768</a>		<a href="#">H7149</a>	<a href="#">H1791</a>	<a href="#">H1124</a>	<a href="#">H7792</a>
יְשַׁתְּבְּלוּ	לְקַבְּלָ	רְזָה	חֶלְקָ	בְּעֵבֶר	נַהֲרָא	לָא	אִיתִי	לָךְ:
مکمل- ہوں	لے- بدلے	اُس- کے	حصہ	پ- پار	دریا- کے	نہیں	ہوگا	لے- تجھ
	<a href="#">H6903</a>	<a href="#">H1836</a>	<a href="#">H2508</a>	<a href="#">H5675</a>	<a href="#">H5103</a>	<a href="#">H3809</a>	<a href="#">H0383</a>	*

پر علاقے مغربی کے فرات دریائے تو پہنچے تک تکمیل فصیل کی اُس اور جائے کیا تعمیر دوبارہ کو یروشلم اگر کہ ہیں دیتے اطلاع کو شہنشاہ ہم غرض گا۔ ربا جاتا قابو کا آب

בְּחַנְיָא	שְׁלַח	מְלָכָא	עַל-	רְחוּם	בְּעַל-	טַעֲם	וְשִׁמְשִׁי	סִפְרָא	וְשִׁאֲרָ	כְּנִיתְהוּן
جواب	بھیجا	بادشاہ- نے	علی-	رحوم	صاحب-	حکم- کے	اور- شمسی	کاتب	اور- باقی	ساتھیوں- ان- کے
<a href="#">H6600</a>	<a href="#">H7972</a>	<a href="#">H4430</a>	<a href="#">H5922</a>	<a href="#">H1169</a>	<a href="#">H2942</a>	<a href="#">H8124</a>	<a href="#">H5613</a>	<a href="#">H7606</a>	<a href="#">H3675</a>	
דִּי	יִתְבִּין	בְּשַׁמְרִין	וְשִׁאֲרָ	עֵבֶר-	נַהֲרָה	שְׁלָם	וּכְעֵת:	ס		
جو	بیٹھے- ہیں	پ- سامریہ	اور- باقی	پار-	دریا- کے	سلام	اور- اب	*		
<a href="#">H1768</a>	<a href="#">H3488</a>	<a href="#">H8115</a>	<a href="#">H7606</a>	<a href="#">H5675</a>	<a href="#">H5103</a>	<a href="#">H8115</a>	<a href="#">H3706</a>			

افسروں خدمت ہم کے اُن والے رہنے میں مغرب کے فرات دریائے اور سامریہ اور میرمنشی شمسی گورنر، رحوم خط یہ میں لکھا، میں جواب نے شہنشاہ سلام کو آپ ہوں۔ ربا لکھ کو

נְשַׁתְּנָא	דִּי	שְׁלַחְתוּן	עֲלִינָא	מְפָרֵשׁ	כְּרִי	קְדָמִי:
خط	جو	بھیجا- تم- نے	علی- ہم- پر	صاف	پڑھا- گیا	سامنے- میرے
<a href="#">H5407</a>	<a href="#">H1768</a>	<a href="#">H7972</a>	<a href="#">H5922</a>	<a href="#">H6568</a>	<a href="#">H7123</a>	<a href="#">H6925</a>

ہے۔ گیا پڑھا سامنے میرے اُسے اور ہے ہوا میں موجودگی میری ترجمہ کا خط کے آپ

וּמְנִי	שִׁים	טַעֲם	וּבְקֵרו	וְהִשְׁכַּחוּ	דִּי	קְרִיתָא	רָד	מִן-	יּוֹמָת	עֲלָמָא	עַל-
اور- من- مجھ	دیا- گیا	حکم	اور- تلاش- کیا	اور- پایا	کہ	شہر	یہ	من-	دنوں	پرآنے	علی-
<a href="#">H4481</a>	<a href="#">H7761</a>	<a href="#">H2942</a>	<a href="#">H1240</a>	<a href="#">H7912</a>	<a href="#">H1768</a>	<a href="#">H7149</a>	<a href="#">H1791</a>	<a href="#">H4481</a>	<a href="#">H3118</a>	<a href="#">H5957</a>	<a href="#">H5922</a>
מְלָכִין	מְחַנְשָׁא	וּמְרָד	וּמְשִׁדּוֹר	מִתְעַבְּר-	בָּה:						
بادشاہوں- کے	اٹھتا- ربا	اور- بغاوت	اور- فتنہ	کیا- جاتا-	پ- اُس- میں						
<a href="#">H4430</a>	<a href="#">H5376</a>	<a href="#">H4776</a>	<a href="#">H0849</a>	<a href="#">H5648</a>							

اور سرکشی کے کر مخالفت کی بادشاہوں سے زمانے قدیم شہر یہ واقعی کہ ہوا معلوم ہیں۔ گئی کی حاصل معلومات میں بارے کے یروشلم پر حکم میرے ہے۔ ربا منبع کا بغاوت

20	ומלכין	תקיפין	הון	על-	ירושלם	ושליטין	בכל	עבר	נהרה	ומרה	בלו
	اور-بادشاہ	طاقتور	تھے	علی-	یروشلم	اور-حاکم	ب-تمام	پار	دریا-کے	اور-خراج	ٹیکس
	<a href="#">H4430</a>	<a href="#">H8624</a>	<a href="#">H1934</a>	<a href="#">H5922</a>	<a href="#">H3390</a>	<a href="#">H7990</a>	<a href="#">H3606</a>	<a href="#">H5675</a>	<a href="#">H5103</a>	<a href="#">H4061</a>	<a href="#">H1093</a>

נהלה: اور-محصول  
 מתקב: دیا-جاتا-تھا  
 להון: لے-ان  
[H3052](#)  
[H1983](#)

ٹیکس کے قسم مختلف انہیں کو علاقے بی مفر پورے کے فرات دریائے کہ تھی طاقت اتنی کی ان ہے۔ ربا حکومت دار کا بادشاہوں ور طاقت یروشلم نیز، پڑا۔ کرنا ادا خراج اور

21	כען	שימו	טעם	לבטלא	גבריאל	אלף	וקרינתא	דה	לא	תתבנא	עד-	מני
	اب	دو	حکم	لے-روکنے-کو	آدمیوں	ان	اور-شہر	یہ	نہ	بنایا-جائے	تک-	من-مجھ
	<a href="#">H3705</a>	<a href="#">H7761</a>	<a href="#">H2942</a>	<a href="#">H0989</a>	<a href="#">H1400</a>	<a href="#">H0479</a>	<a href="#">H7149</a>	<a href="#">H1791</a>	<a href="#">H3809</a>	<a href="#">H1124</a>	<a href="#">H5705</a>	<a href="#">H4481</a>

טעמא: حکم  
 دیا-جائے  
[H2941](#)  
[H7761](#)

کی کرنے تعمیر سے سرے نئے کو شہر تک وقت اُس دوں نہ حکم خود مہیں تک جب اُتیں۔ باز سے کرنے تعمیر کی شہر آدمی یہ کہ دیں حکم اب چنانچہ ہے۔ نہیں اجازت

22	וזהירין	הון	שלו	למעבר	על-	הנה	למה	ישנא	חבלא	להנפקת
	اور-بوشیار	ربو	غفلت	لے-کرنے-سے	علی-	اُس-میں	لے-کیوں	بڑھے	نقصان	لے-نقصان-کرنے-کو
	<a href="#">H2095</a>	<a href="#">H1934</a>	<a href="#">H7960</a>	<a href="#">H5648</a>	<a href="#">H5922</a>	<a href="#">H1836</a>	<a href="#">H4101</a>	<a href="#">H7680</a>	<a href="#">H2257</a>	<a href="#">H5142</a>

מלכין: بادشاہوں-کا  
 \*  
[H4430](#)

پہنچے۔ نقصان بڑا کو شہنشاہ کہ ہو نہ ایسا جائے، کی نہ سُستی میں تکمیل کی حکم اس کہ دیں دھیان

23	אדון	מן-	די	פרשין	נשתנא	די	ארתחששתא	ארתחששתא	מלכא	קרי
	تب	من-	جو	نقل	خط-کی	جو	[ارتخشتا]	(ارتخشتا)	بادشاہ-کا	پڑھا-گیا
	<a href="#">H0116</a>	<a href="#">H4481</a>	<a href="#">H1768</a>	<a href="#">H6573</a>	<a href="#">H5407</a>	<a href="#">H1768</a>			<a href="#">H4430</a>	<a href="#">H7123</a>

קדם-	רחום	ישמי	ספרא	וכנותהון	אזלו	בבזולו	לירושלם	על-	יתודיא
سامنے-	رحوم	اور-شمسی	کاتب	اور-ساتھیوں-ان-کے	گئے	ب-جلدی	لے-یروشلم	علی-	یہودیوں
<a href="#">H6925</a>		<a href="#">H8124</a>	<a href="#">H5613</a>	<a href="#">H3675</a>	<a href="#">H0236</a>	<a href="#">H0924</a>	<a href="#">H3390</a>	<a href="#">H5922</a>	<a href="#">H3062</a>

ובטלו: اور-روک-دیا  
 הון: انہیں  
 באדרע: پ-بازو  
 וחיל: اور-طاقت  
 \*  
[H0989](#)  
[H1994](#)  
[H0153](#)  
[H2429](#)

کام زبردستی کو یہودیوں اور بوئے روانہ لے کے یروشلم وہ تو گئی سنائی کر پڑھ کو افسروں خدمت ہم کے ان اور شمسی رحوم، کاپی کی خط بی جوں دیا۔ روک سے رکھنے جاری

24	באדון	בטלת	עבירת	בית-	אלהא	די	בירושלם	והות	בטלא	עד	שנת	תרתין
	تب	زکا	کام	گھر-	خدا-کے	جو	ب-یروشلم	اور-ربا	زکا-ہوا	تک	سال	دوسرے
	<a href="#">H0116</a>	<a href="#">H0989</a>	<a href="#">H5673</a>	<a href="#">H1005</a>	<a href="#">H0426</a>	<a href="#">H1768</a>	<a href="#">H3390</a>	<a href="#">H1934</a>	<a href="#">H0989</a>	<a href="#">H5705</a>	<a href="#">H8140</a>	<a href="#">H8648</a>

למלכות: لے-سلطنت  
 דריוش: دارا  
 מלך: بادشاہ-  
 פרס: فارس-کے  
 \*  
[H4437](#)  
[H1868](#)  
[H4430](#)  
[H6540](#)

ربا۔ زکا تک سال دوسرے کے حکومت کی دارا بادشاہ کے فارس وہ اور گیا، زکا کام تعمیری کا گھر کے اللہ میں یروشلم چنانچہ